



سٹی 31 دسمبر تک واجب الادا ٹیکسوں پر سود اور جرمانے کی وصولی کو معطل کر کے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی معاونت کر رہا ہے

برامپٹن، آن (1 اکتوبر 2020) - گذشتہ روز، برامپٹن سٹی کونسل نے پراپرٹی ٹیکس کی واجب الادا ادائیگیوں پر 31 دسمبر تک ہر قسم کے سود اور جرمانے معطل کرنے کی منظوری دی ہے۔

ابتدائی طور پر، سٹی نے 19 اگست تک کے جرمانوں اور سود کی رقوم معطل کر دی ہیں۔ اس فیصلے سے ہماری کمیونٹی میں موجود کئی ایسے لوگوں کی معاشی داد رسی ہو جائے گی جو کووڈ-19 کی وباء سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ مورخہ 20 اگست سے 31 دسمبر تک واجب الادا ٹیکس کی ادائیگیوں پر سود اور جرمانے معطل کرنے سے ہمارے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کو اس مشکل وقت میں ایک قابل ذکر اضافی مالی معاونت ملے گی۔

واجب الادا رقوم کے حوالے سے اکتوبر کے مہینے میں پراپرٹی کے مالکان کو واجب الادا ٹیکس کے نوٹس بھجوائے جائیں گے۔

آج کے اعلان کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ واجب الادا ٹیکس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ٹیکس دہندگان کو ٹیکس کی وہ تمام رقوم ادا کرنا ہوں گی، جو ان کے جون کے مہینے میں جاری کردہ فائنل ٹیکس بل میں درج شدہ ہیں۔ اگست تا دسمبر تک کے عرصے کے لیے واجب الادا رقوم پر صرف سود اور جرمانے معطل کیے گئے ہیں۔ اُس وقت موجود کسی بھی واجب الادا بیلنس پر جرمانے اور سود سے بچنے کے لیے، سٹی کو تمام ادائیگیاں 31 دسمبر سے پہلے موصول ہو جانی چاہیں۔ ایسے ٹیکس دہندگان جو کووڈ-19 وباء کی وجہ سے مشکلات کا شکار نہ ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگیاں واجب الادا تاریخوں تک جمع کرا دیں۔

قسطوں کی باقاعدہ ادائیگیوں کی حتمی واجب الادا تاریخیں 23 ستمبر، 21 اکتوبر اور 18 نومبر 2020 ہیں۔ ادائیگی کے آپشنز کے بارے میں تفصیلات سٹی کی [ویب سائٹ](#) پر دستیاب ہیں۔

ماہانہ پری آتھورائزڈ پیمنٹس (PTP) اور فائنل ٹیکس کی ادائیگیوں کو نکالنے کا عمل ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں ہو گا۔

کسی قسم کے سوالات کے لیے [اس فارم کو استعمال کریں](#)۔

کووڈ-19 کے بارے میں سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca